

Tarjuma and close paragraph

ترجمہ

(/10)

دیے گئے پیرا گراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔

Mrs. Wilson said, it was time for her to go home. She put on her hat, coat and gloves and her sister put some biscuits into a box for her. Mrs. Wilson took the box and walked to the bus stop. She has to wait for a long time for the bus, so she bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus and sat down. She began to read the newspaper. All of a sudden, she remembered that she had left the box on the bus stop.

۱۔ دستانے ۲۔ انتظار ۳۔ خریدا ۴۔ پہنچی

(/5)

کلوڈ پیرا گراف

علی بزرگوں کی بہت..... کرتا ہے۔ اسے بزرگوں کی باتیں بہت..... لگتی ہیں۔ جب بڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تو وہ..... سے خاموش بیٹھتا اور ان کی..... غور سے سنتا ہے۔ مگر بڑوں کی بہت سی باتیں اس کی..... سے بالا ہوتی ہیں۔

سمجھ۔ ادب۔ اچھی۔ باتیں۔ عزت۔ خاموش

ترجمہ

(/10)

دیے گئے پیرا کراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔

Once two friends set off on a journey. They promised to help each other in time of difficulty. They reached a forest. They saw a bear coming towards them. One of them ran and climbed up a tree. His friend could not climb up the tree so he lay down and held his breath.

۱۔ سفر ۲۔ مشکل ۳۔ جنگل ۴۔ رپچہ ۵۔ چڑھا ۶۔ سانس

ترجمہ

(/10)

دیے گئے پیرا کراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔

Ali had come from the village to visit his uncle in Islamabad during the summer holidays. The whole family got ready quickly and set out in a car for the market. Ali was very happy and was enjoying city life with his brothers Aslam and Ahmed. He had many questions in his mind. He was looking here and there in amazement. At last he spoke, "There is a great difference in village and city life."

گاؤں۔ اسلام آباد۔ مارکیٹ۔ حیرت۔ فرق

میرے والد کے دوست مری کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے بڑے-----کی شادی تھی۔ والد صاحب نے کہا کہ ہم دونوں بھائی بھی شادی میں-----کے لیے مری جائیں گے۔ والد صاحب کا یہ فیصلہ سن کر ہم دونوں بھائیوں کی خوشی کی کوئی-----نہ رہی۔ ہم نے تیاری کی اور اپنے پروگرام کے مطابق مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں بھائی اچھے-----سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بارش نے تو-----کا مزادو بالا کر دیا۔

بارش - سفر - موسم - انتہا - شرکت - بیٹے - اچھے

ترجمہ

دیے گئے پیرا گراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔

Alah Din could not come out of the cave. He thought, "what should I do now?" While he was thinking, he began to rub his hands. All of a sudden, a giant appeared in front of him. After seeing him Alah Din began to tremble with fear, but he took courage and asked the giant, "who are you and where have you come from?" The giant answered, "I am this ring's slave."

۱۔ الہ دین ۲۔ ظاہر ہوا ۳۔ کانپنے لگا ۴۔ بہت ۵۔ غلام

ترجمہ

(/10)

دیے گئے پیرا گراف کا اردو میں ترجمہ کریں۔

Our teeth and eyes also need proper care. Most of us do not brush our teeth after every meal. Bits of food are left in our teeth and with the passage of time our teeth decay, and have to be taken out. We read in dim light while laying in the bed. We must avoid doing so, otherwise our eyesight will become weak.

۱۔ مناسب حفاظت ۲۔ خوراک کے ذرات ۳۔ خراب ہو جانا ۴۔ مدہم روشنی ۵۔ پرہیز ۶۔ ورنہ